

23rd Meeting of the Working Mechanism for Consultation & Coordination on India-China Border Affairs

November 18, 2021

بھارت - چین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطہ کیلئے ورکنگ میکانزم کی 23 ویں میٹنگ

18 نومبر، 2021

بھارت- چین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطے کیلئے ورکنگ میکانزم (ڈبلیو ایم سی سی) کی 23 ویں میٹنگ 18 نومبر 2021 کو منعقد ہوئی۔ ہندوستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سکرپٹری (مشرقی ایشیاء) نے کی، جبکہ چینی وفد کی قیادت چینی وزارت خارجہ کے ماتحت ہاؤنڈری اور سمندری امور شعبہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کی۔

2- دونوں فریقین نے ستمبر میں دوشنبے میں ہونے والی ملاقات کے دوران بھارتی وزیر خارجہ اور چین کے وزیر خارجہ کے درمیان اس بات پر ہونے والے معاہدے کو یاد کیا کہ دونوں فریقین نے فوجی اور سفارتی حکام مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچول کنٹرول (ایل اے سی) پر بقیہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی بات چیت جاری رکھیں۔ اسی مناسبت سے، دونوں فریقین نے ہندوستان- چین سرحدی علاقوں کے مغربی سیکٹر میں ایل اے سی پر صورتحال پر واضح اور گہرائی سے بات چیت کی اور 10 اکتوبر 2021 کو دونوں فریقین کے سینئر کمانڈروں کی آخری میٹنگ کے بعد سے ہونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے دو طرفہ معاہدوں اور پروٹوکول کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے مشرقی لداخ میں ایل اے سی پر بقیہ مسائل کا جلد از جلد حل تلاش کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا تاکہ امن و سکون کو بحال کیا جا سکے۔ دونوں فریقین نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ دونوں فریقین کو عبوری طور پر بھی مستحکم زمینی صورتحال کو یقینی بنانے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے کام جاری رکھنا چاہیے۔

3- اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں فریقین کو سینئر کمانڈرز کی میٹنگ کا اگلا (14 واں) دور جلد از جلد منعقد کرنا چاہیے تاکہ موجودہ دوطرفہ معاہدے اور پروٹوکول کے مطابق مغربی سیکٹر میں ایل اے سی پر تمام متنازعہ پوائنٹس سے مکمل طور پر پیچھے ہٹنے کا مقصد حاصل کیا جا سکے۔

نئی دہلی

18 نومبر، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.